

21.7 These are the verses of the Book which is Manifest. (Qur'an 28:2)

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

سورہ: القصص آیت: ۲

(اے رسول) یہ واضح و روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔

21.8 By the Manifesting (lucid) Book. (Qur'an 43:2)

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

سورہ: الزخرف آیت: ۲

روشن کتاب (قرآن) کی قسم۔

21.9 By the Manifesting Book. (Qur'an 44:2)

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

سورہ: الدخان آیت: ۲

واضح و روشن کتاب (قرآن) کی قسم۔

22. Holy Qur'an is a Manifest proof, Guidance and Mercy from the Lord of Heavens.

22.1 Or lest you should say: "If only a book has been sent to us, we should have been better guided than they;" so indeed has (now) come to you a manifest proof from your Lord, and a guidance and a mercy. Who then is more unjust than he who belies the signs of God and turns away from them? Soon We shall punish those who turn away from Our signs with a severe chastisement for their turning away. (Qur'an 6:158)

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا
 أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۖ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
 وَهُدًى وَرَحْمَةً ۖ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ
 اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ
 يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
 يَصْدِفُونَ

سورہ: الانعام آیت: ۱۵۷

یا یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب (اللہ) نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر راہ
 راست پر ہوتے تو (دیکھو) اب تو یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس
 ایک روشن دلیل (کتاب اللہ) اور ہدایت و رحمت آچکی ہے تو جو شخص اللہ کی آیات کو
 جھٹلاے اور اس سے منہ پھیرے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ جو لوگ آیتوں سے منہ
 پھیرتے ہیں ہم ان کے منہ پھیرنے کے بدلے میں عنقریب ہی بڑے عذاب کی سزا
 دیں گے۔

22.2 And when you do not bring a sign to them, they say: "why you have not put one together?" Say: "I follow only what my Lord reveals to me. There are clear proofs from your Lord, and a guidance and a mercy for a people who believe."

(Qur'an 7:203)

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ
 إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ هَذَا بَصَائِرُ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

سورہ: الاعراف آیت: ۲۰۳

اور جب تم ان کے پاس کوئی (خاص) معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اسے کیوں نہیں بنالیا۔ (اے رسولؐ) تم کہہ دو کہ میں تو بس اسی وحی کا پابند ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتی ہے یہ (قرآن) تمہارے پروردگار کی طرف سے (حقیقت کی دلیل ہے) اور ایمان داروں کے واسطے ہدایت و رحمت ہے۔

22.3 Say: "O people! Indeed the truth (Qur'an) has come to you from your Lord: therefore whosoever receives the guidance, he receives the guidance for (the good of) his own self; and whosoever strays, most surely, he strays to his own loss; and I am not a custodian over you." (Qur'an 10:108)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ
 رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ
 وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
 بِوَكِيلٍ

سورہ: یونس آیت: ۱۰۸

(اے رسول) تم کہہ دو کہ اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق (قرآن) آپ کا اب جو شخص سیدھی راہ پر رہے گا تو وہ صرف اپنے ہی نفس کیلئے ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ تو بھٹک کر اپنا ہی کھوئے گا اور میں تو تمہارا ذمہ دار تو ہوں نہیں۔

22.4 Alif, Lam, Ra. (This is) a Book whose verses are firmly arranged then separated (in revelation), from the All-Wise, the All-Aware. **(Qur'an 11:1)**

آلِفٌ كِتَابٍ اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

سورہ: ہود آیت: ۱

آل۔ یہ (قرآن) وہ کتاب ہے جس کی آیتیں ایک واقف کار حکیم کی طرف سے (دلائل سے) خوب مستحکم کر دی گئیں۔ پھر تفصیل وار بیان کر دی گئیں ہیں۔

22.5 Verily, this Qur'an guides to that which is the most upright and announces glad tidings to the believers who do good deeds that they shall have a great reward. **(Qur'an 17:9)**

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

سورہ: بنی اسرائیل آیت: ۹

اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے اور جو ایماندار اچھے کام کرتے ہیں ان کو یہ خوش خبری دیتا ہے کہ ان کیلئے بہت بڑا اجر اور ثواب (موجود) ہے۔

22.6 And thus have We sent it down; as manifest

signs, and verily God guides whomsoever He intends.

(Qur'an 22:16)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ آيٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِي

مَنْ يُرِيْدُ

سورہ: الحج آیت: ۱۶

اور ہم نے اس (قرآن) کو یوں ہی واضح و روشن نشانیاں (بنا کر) نازل کیا اور بیشک اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

22.7 Say: "It has been revealed to me that a party

of Jinn has listened (Qur'an) and said: Verily we have heard a wonderful recitation. Which guides to the right path; so we believe in it, and will not associate any one with our Lord."

(Qur'an 72:1-2)

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي اِلَى الرُّشْدِ فَاَمَنَّا

بِهٖ ۗ وَّلٰكِنْ نُّشْرِكُ بِرَبِّنَا اَحَدًا

سورہ: الجن آیت: ۲-۱

(اے رسول! لوگوں سے) کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت

نے (قرآن کو) جی لگا کر سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ جو بھلائی

کی راہ دکھاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور اب ہم کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائیں گے۔

23. Holy Qur'an is a lesson and reminder for the people of understanding.

23.1 “Indeed there is a lesson in their narratives for men of understanding. It is not a forged tale but a confirmation of what went before it, and a detailed exposition of all things, and a guide and a mercy for those who believe.” (Qur'an 12:111)

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي
الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن
تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

سورہ: یوسف آیت: ۱۱۱

اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں کے قصوں میں عقل مندوں کے لئے عبرت (و نصیحت) ہے۔ یہ (قرآن) کوئی ایسی بات نہیں جو (خواہ مخواہ) گڑھ لی جائے بلکہ (جو آسمانی کتابیں) اس کے پہلے سے موجود ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمانداروں کے لئے (سرتاپا) ہدایت و رحمت ہے۔

23.2 This (Qur'an) is a clear message for humanity so that they may be warned by it. And so that they may know that He is God, and that the men of understanding may take heed. (Qur'an 14:52)

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَلْعَلُّمُوا أَنَّمَا هُوَ
إِلَهُةٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

سورہ: ابراہیم آیت: ۵۲

یہ (قرآن) لوگوں کیلئے ایک قسم کی اطلاع ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعہ سے (اللہ کے عذاب سے) ڈرائے جائیں اور تاکہ یہ بھی یقین کر لیں کہ بس وہی (اللہ) ایک معبود ہے۔ اس طرح عقلمند والے لوگ عبرت (و نصیحت) حاصل کریں۔

23.3 (O', Mohammad this Qur'an is) The Book We have sent down to you which is thoroughly blessed, so that they may ponder over its verses, and those who are given wisdom may take heed. (Qur'an 38:29)

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

سورہ: ص آیت: ۲۹

(اے رسول) کتاب (قرآن) جو ہم نے تم پر نازل کی ہے برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں تاکہ عقلمند والے نصیحت حاصل کریں۔

24. Holy Qur'an is made easy so that people may heed.

24.1 So We have made this (Qur'an) easy in your tongue that they may be admonished. (Qur'an 44:58)

فَإِنَّمَا يَسِّرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

سورہ: الدخان آیت: ۵۸

ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں (اس لئے) آسان کر دیا ہے
تا کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔

24.2 Verily we have made the Qur'an easy (to

remember). Is there anyone who will pay attention?

(Qur'an 54:40)

وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

سورہ: القمر آیت: ۴۰

ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو
نصیحت حاصل کرے۔

25. Holy Qur'an explains with knowledge.

25.1 Indeed We have brought to them a Book, which We explain with knowledge, a guidance and a mercy for people who believe. (Qur'an 7:52)

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى

سورہ: الاعراف آیت: ۵۲

وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

حالانکہ ہم نے ان کے پاس (رسول کی معرفت) کتاب بھی بھیج دی جسے ہر طرح سمجھ
بوجھ کے تفصیل وار بیان کر دیا ہے اور (وہ) ایماندار لوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے۔

26. Holy Qur'an is a criterion of right and wrong.

26.1 He has sent down to you the Book with Truth, confirming that which was (revealed) before it; and He sent down the Torah and the Evangel aforetime, a guidance to the people and sent down the criterion. Verily those who disbelieve in the signs of God, for them is a severe punishment: God is Mighty, Master of Retribution.

(Qur'an 3:3-4)

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى
لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
اِنْتِقَامٍ

سورہ: آل عمران آیت: ۳-۴

(اے رسول!) اسی (اللہ) نے تم پر برحق کتاب نازل کی جو (آسمانی کتابیں پہلے سے) اسکے سامنے موجود ہیں انکی تصدیق کرتی ہے۔ اور اسی نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے واسطے توریت و انجیل نازل کی اور حق و باطل میں تمیز دینے والی کتاب (قرآن) نازل کی۔ بیشک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو نہ مانا ان کیلئے سخت عذاب ہے اور اللہ (ہر چیز پر) غالب بدلہ لینے والا ہے۔

26.2 The month of Ramadhan is that in which Qur'an was sent down, a guidance for humanity and clear proofs of guidance, and the criterion for the right and the wrong.

(Qur'an 2:185)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ

سورہ: البقرہ آیت: ۱۸۵

(روزوں کا) مہینہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کا رہنما ہے اور اس میں رہنمائی اور (حق و باطل) کے پہچان کی روشن نشانیاں ہیں۔

26.3 And thus We have sent it down as manifest signs, and verily God guides whomsoever He intends.

(Qur'an 22:16)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ

سورہ: الحج آیت: ۱۶

اور ہم نے اس (قرآن) کو یوں ہی واضح و روشن نشانیاں (بنا کر) نازل کیا اور بیشک اللہ جسکی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

27. People of the Book (Jews and Christian) believe in The Holy Qur'an.

27.1 Those whom We gave the Book before this (some of them) do believe in it. (Qur'an 28:52)

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ

يُؤْمِنُونَ

سورہ: القصص آیت: ۵۲

جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی ہے وہ اس (قرآن) پر ایمان لاتے ہیں۔

27.2 And thus have We sent down to you the Book (Qur'an); and those whom We have given the Book believe in it; and of these Arab pagans there are those who believe in it; and dispute not against Our signs but the disbelievers.

(Qur'an 29:47)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۚ فَالَّذِينَ

آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَؤُلَاءِ

مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا

الْكَافِرُونَ

سورہ: العنكبوت آیت: ۴۷

اور (اے رسول) جس طرح اگلے پیغمبروں پر کتابیں (اتاریں) اسی طرح ہم نے تمہارے پاس کتاب نازل کی تو جن لوگوں کو ہم نے (پہلے) کتاب عطا کی ہے وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان (عربوں) میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں کے منکر کا فرہی ہیں۔

28. Holy Qur'an is the confirmation and explanation of the earlier revelations (Torah & Evangel).

28.1 And believe in that which I have sent down, verifying that which is with you, and do not be the first to deny it, nor take a mean price in exchange for My signs, and Me alone shall you fear. (Qur'an 2:41)

وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا
أُولَٰئِكَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

سورہ: البقرہ آیت: ۴۱

اور جو (قرآن) میں نے نازل کیا وہ اس کتاب (توریت) کی (بھی) تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت (دنیوی فائدہ) نہ لو اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔

28.2 When it is said to them, “believe in what God has sent down,” they say, “We believe in that which was sent down to us,” and they disbelieve in that which is besides (that), while it is the truth, confirming that which is with them.

(Qur'an 2:91)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُنُومُنُ بِمَا
 أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ
 مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ

سورہ البقرہ آیت: ۹۱

اور جب ان سے کہا گیا کہ جو (قرآن) اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہنے لگے کہ ہم تو (اسی کتاب توریت) پر ایمان لائے ہوئے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی تھی اور اس (کتاب قرآن) کو جو اس کے بعد (آئی) ہے نہیں مانتے حالانکہ وہ (قرآن) حق ہے اور (اسی کتاب توریت) کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتی ہے۔

28.3 Say (O' Mohammad) whosoever is enemy of Gabriel; Verily it is he who has brought it to your heart by God's command, confirming what has (already) been (revealed) before, and a guidance and glad tidings to the believers. (Qur'an 2:97)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ

بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ

سورہ: البقرہ آیت: ۹۷

(اے رسول ان لوگوں سے) کہہ دو کہ جو جبرئیل کا دشمن ہے (اس کا اللہ دشمن ہے) کیونکہ اس (فرشتے نے) اللہ کے حکم سے (اس قرآن کو) تمہارے دل پر ڈالا ہے اور وہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو (پہلے نازل ہو چکی ہیں اور اب) اسکے سامنے موجود ہیں اور ایمانداروں کے واسطے خوشخبری ہے۔

28.4 He has sent down to you the Book with truth, confirming that which was (revealed) before it; and He sent down the Torah and the Evangel aforetime, a guidance to the people and sent down the criterion. Verily those who disbelieve in the signs of God, for them is a severe punishment: God is Mighty, Master of Retribution. (Qur'an 3:3-4)

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى
لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
الْقِسْمِ

سورہ: آل عمران آیت: ۳۳-۳۴

(اے رسول!) اسی (اللہ) نے تم پر برحق کتاب نازل کی جو (آسمانی کتابیں پہلے سے) اسکے سامنے موجود ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اسی نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے واسطے توریت و انجیل نازل کی اور حق و باطل میں فرق بتانے والی کتاب (قرآن) نازل کی۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو نہ مانا ان کیلئے سخت عذاب ہے اور اللہ (ہر چیز پر) غالب بدلہ لینے والا ہے۔

28.5 O' you to whom the Scripture has been given, believe in what We have sent down, confirming what is (already) with you, before We change their faces (features) and turn them on their backs or We cursed them as We cursed the people of Sabbath; and the Command of God is always executed.

(Qur'an 4:47)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا
مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا
فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعْنَا
أَصْحَابَ السَّبْتِ ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

سورہ: النساء آیت: ۴۷

اے اہل کتاب جو (کتاب) ہم نے نازل کی ہے اور وہ (اس کتاب کی بھی) تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر ایمان لاؤ قبل اسکے کہ ہم (کچھ لوگوں کے)

چہرے بگاڑ کر انکے پیچھے کی طرف پھیر دیں یا جس طرح ہم نے اصحابِ سبت (ہفتہ والوں) پر پھٹکار برسائی ویسے ہی پھٹکار ان پر بھی کریں اور اللہ کا حکم کیا کرایا ہوا سمجھو۔

28.6 And We have sent down to you (O' Mohammad) the Book (Qur'an) with truth, confirming what is before it of the Book, and a guardian over it, therefore judge between them by what God has sent down, and do not follow their (vain) desires, diverging from what has come to you, of the truth.

(Qur'an 5:48)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ

سورہ المائدہ آیہ: ۴۸

ہم نے تم پر بھی برحق کتاب نازل کی کہ جو کتاب (اس کے پہلے سے) اسکے وقت میں موجود ہے اسکی تصدیق کرتی ہے اور اس کی نگہبان (بھی) ہے تو جو کچھ تم پر اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق تم بھی حکم دو اور جو حق بات اللہ کی طرف سے آچکی ہے اس سے کتر اے ان لوگوں کے خواہشِ نفسانی کی پیروی نہ کرو۔

28.7 This Book (Qur'an), We have sent down blessed, confirming that which has been before it, that you may warn (the people of) the Mother City (Mecca) and those around it; and those who believe in the Hereafter, believe in it, and they are constantly guarding their prayers. (Qur'an 6:93)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ
صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

سورہ: الانعام آیت: ۹۳

اور یہ (قرآن) بھی وہ کتاب ہے اسے ہم نے بابرکت نازل کیا ہے اور اُس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اسکے سامنے (پہلے سے) موجود ہے اور اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ تم (اس کے ذریعہ سے) اہلِ مملہ اور اسکے اطراف کے رہنے والوں کو (اللہ کے خوف سے) ڈراؤ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہی اپنی نماز میں بھی پابندی کرتے ہیں۔

28.8 And this Qur'an is not such as could be produced by any one besides God, but it is a confirmation of what has gone before it, and (the clearest) explanation of the Book, there is no doubt in it, (it is) from the Lord of the worlds. (Qur'an 10:37)

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ
الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سورہ: یونس آیت: ۳۷

اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے جھوٹ موٹ بنا ڈالے بلکہ
(یہ تو) جو کتابیں پہلے کی اسکے سامنے موجود ہیں اس کی تصدیق اور (ان) کتابوں کی تفصیل
ہے۔ اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ سارے جہاں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔

28.9 Indeed (there) in the histories of theirs, is a lesson for men of understanding; it is not a tale which has been forged, but a confirmation of what went before it, a detailed exposition of all things and a guide and a mercy to people who believe. (Qur'an 12:111)

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ
مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

سورہ: یوسف آیت: ۱۱۱

اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں کے قصوں میں عقل مندوں کے لئے عبرت و (نصیحت)
ہے۔ یہ (قرآن) کوئی ایسی بات نہیں جو (خواہ مخواہ) گڑھ لی جائے بلکہ (جو آسمانی

کتابیں) اس کے پہلے سے موجود ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمانداروں کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔

28.10 Before there was a Book of Moses, a guide and a mercy, and this Book (Qur'an) confirms (it) in the Arabic language, that it may warn those who are unjust and give glad tidings to those who do good. (Qur'an 46:12)

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۗ وَهَذَا
كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ

سورہ: الاحقاف آیت: ۱۲

اور اس کے قبل موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی اور یہ (قرآن) وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں اس کی تصدیق کرتی ہے تاکہ (اس کے ذریعہ سے) ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کے لئے خوش خبری ہے۔

29. Holy Qur'an manifest what People of Book Conceal.

29.1 O' People of the Book! Indeed Our Messenger (Mohammad) has come to you, manifesting to you much of what you had been concealing of the Book, and he passes over a good deal; Indeed there has come to you from God, Light and a Manifesting Book. (Qur'an 5:15)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ
كَثِيرٍ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

سورہ: المائدہ آیت: ۱۵

اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا پیغمبر (محمدؐ) آچکا ہے جو کتاب (اللہ) کی ان باتوں میں سے جنہیں تم چھپایا کرتے تھے بہت تو صاف صاف بیان کر دے گا اور بہت سے عہد ادر گذر کرے گا۔ تمہارے پاس تو اللہ کی طرف سے ایک چمکتا ہوا نور اور صاف بیان کرنے والی کتاب (قرآن) آچکی ہے۔

30. Holy Qur'an narrates the differences of Children of Israel.

30.1 Verily this Qur'an relates to the children of Israel most of that about which they disagree. (Qur'an 27:76)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ
الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

سورہ: النمل آیت: ۷۶

اس میں بھی شک نہیں کہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر ان کی اکثر باتوں کو جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں ظاہر کر دیتا ہے۔

31. News about Holy Qur'an is in the ancient scriptures.

31.1 And verily it has come down from the Lord of the worlds. Came down with it the trusted Spirit. Upon your heart (O' Mohammad) that you may be a warner. In plain Arabic. Verily it is in the scriptures of the ancient. (Qur'an 26:192-196)

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
 الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ
 مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ
 عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي
 زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

سورہ: الشعرا آیت: ۱۹۲-۱۹۶

بیشک یہ (قرآن) ساری دنیا کے رب کا اتارا ہوا ہے۔ جسے روح الامین (جبریلؑ) صاف عربی میں لیکر تمہارے دل پر نازل ہوئے ہیں تاکہ تم بھی (اور پیغمبروں کی طرح لوگوں کو عذاب الہی سے) ڈراؤ۔ اور بیشک اس کی خبر اگلے پیغمبروں کی کتابوں میں (بھی موجود) ہے

32. Holy Qur'an is Guidance, Blessing, Glad tidings, healing and Reminder for the believers.

32.1 This Book (Qur'an) sent down to you – so let there be no weightiness in your breast therefore - that you may warn thereby, and (it is) a reminder to the believers.

(Qur'an 7:2)

كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ
مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

سورہ: الاعراف آیت: ۲

(اے رسولؐ) یہ کتاب اللہ (قرآن) تم پر اس غرض سے نازل کی گئی ہے تاکہ تم اس کے ذریعہ سے (لوگوں کو عذاب الہی سے) ڈراؤ اور ایمانداروں کیلئے نصیحت کا باعث ہو لہذا تمہارے دل میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی پیدا نہ ہو۔

32.2 Indeed We have brought to them a Book, which We explain with knowledge, a guidance and a mercy for the people who believe. (Qur'an 7:52)

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

سورہ: الاعراف آیت: ۵۲

حالانکہ ہم نے ان کے پاس (رسولؐ کی معرفت) کتاب بھی بھیج دی جسے ہر طرح سمجھ بوجھ کے تفصیل وار بیان کر دیا ہے اور (وہ) ایماندار لوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے۔

32.3 And when the Qur'an is recited; then you listen to it and be attentive, so that mercy be done to you. (Qur'an 7:204)

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ

سورہ: الاعراف آیت: ۲۰۴

(لوگو) جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ چاپ رہو تاکہ (اسی بہانے) تم پر رحم کیا جائے۔

32.4 O' humanity! Indeed an exhortation has come

to you from your Lord, and a cure for that which is in your breasts, and a guidance and mercy for the believers.

(Qur'an 10:57)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

سورہ: یونس آیت: ۵۷

لوگو تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت (قرآن) آچکی اور جو امراض (شرک وغیرہ) دل میں ہیں ان کی دوا اور ایمانداروں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے۔

32.5 Indeed (there) is a lesson in their narratives

for men of understanding; it is not a tale which has been forged, but a confirmation of what went before it, a detailed exposition of all things and a guide and a mercy to people who believe.

(Qur'an 12:111)

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ
مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصَدِيقَ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

سورہ: یوسف آیت: ۱۱۱

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں کے قصوں میں عقل مندوں کے لئے عبرت و (نصیحت) ہے یہ (قرآن) کوئی ایسی بات نہیں جو (خواہ مخواہ) گڑھ لی جائے بلکہ (جو آسمانی کتابیں) اس کے پہلے سے موجود ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمانداروں کیلئے ہدایت و رحمت ہے۔

32.6 On the day when We shall raise up in every people a witness over them from among themselves, and bring you (O' Mohammad!) as a witness over (all) these; and We have sent down to you the Book (Qur'an) explaining everything, a guidance, a mercy and glad tidings for those who submit themselves (To God). (Qur'an 16:89)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ
 أَنْفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۚ
 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
 وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

سورہ: النحل آیت: ۸۹

اور (وہ دن یاد کرو) جس دن ہم ایک گروہ میں سے انہی میں کا ایک گواہ ان کے مقابل لاکھڑا کریں گے اور (اے رسول) تم کو ان لوگوں پر گواہ بنا دینگے ہم نے تم پر کتاب (قرآن) نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور مسلمانوں کیلئے ہدایت و رحمت اور خوش خبری ہے۔

32.7 Verily, this Qur'an guides to that which is the most upright, and announces glad tidings to the believers who do good that they shall have a great reward. (Qur'an 17:9)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
أَجْرًا كَبِيرًا

سورہ: بنی اسرائیل آیت: ۹

اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن اُس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے اور جو ایماندار اچھے اچھے کام کرتے ہیں ان کو یہ خوش خبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا اجر و ثواب (موجود) ہے

32.8 We have sent down the Qur'an which is a healing and a mercy for the believers, but it adds nothing for the unjust but perdition. (Qur'an 17:82)

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

سورہ: بنی اسرائیل آیت: ۸۲

اور ہم نے قرآن میں جو نازل کیا ہے وہ مومنین کیلئے شفاء اور رحمت ہے (مگر) نافرمانوں کو گھائے کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا۔

32.9 Ta, Seen. These are the verses of the Qur'an, and the Book that makes the truth manifest. A guidance and glad tiding for the believers. (Qur'an 27:1-2)

طس ۛ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ

مُبِينٍ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

سورہ: النمل آیت: ۱-۲

طس - یہ قرآن اور واضح و روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ (یہ) ان ایمانداروں کیلئے ہدایت اور (جنت کی) خوشخبری ہے۔

32.10 And verily it is a (sure) guidance and mercy for the believers. (Qur'an 27:77)

وَإِنَّهُ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

سورہ: النمل آیت: ۷۷

یہ قرآن ایمانداروں کے لئے ہدایت و رحمت ہے

32.11 Is it not enough for them that We have sent down the Book to you which is recited to them? Verily in this there is mercy and a reminder for the people who believe. (Qur'an 29:51)

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ

عَلَيْهِمْ ۛ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ

يُؤْمِنُونَ

سورہ: العنكبوت آیت: ۵۱

کیا ان کیلئے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا ہے جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایماندار لوگوں کیلئے اس میں (اللہ کی) بڑی مہربانی اور نصیحت ہے۔

33. Holy Qur'an is The Guidance for the Pious.

33.1 This is the Book, there is no doubt in it, (it is) a guidance to those who safeguard themselves with full awareness of divine laws. (Qur'an 2:2)

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِيْهِ ۙ هُدًى
لِّلْمُتَّقِيْنَ

سورہ: البقرہ آیت: ۲

یہ وہی کتاب (اللہ) ہے (جس کا تمہیں علم ہے) اس میں (کسی قسم کے) شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کی رہنما ہے۔

33.2 This is a clear statement (of events) for humanity, and a guidance and admonition for those who safeguard themselves with full awareness of Divine laws. (Qur'an 3:138)

هٰذَا بَيٰنٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

سورہ: آل عمران آیت: ۱۳۸

یہ عام لوگوں کیلئے تو صرف بیان (واقعہ) ہے (مگر) پرہیزگاروں کیلئے ہدایت و نصیحت ہے۔

34. Holy Qur'an is The Guidance and Blessing for the Righteous.

34.1 A guidance and a mercy for the righteous.
(Qur'an 31:3)

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ

سورہ: لقمان آیت: ۳

نیک لوگوں کیلئے (قرآن) ہدایت و رحمت ہے۔

35. Holy Qur'an is Cure for the Soul and a Guidance.

35.1 O' humanity! Indeed an exhortation has come to you from your Lord, and a cure for that which is in your breasts, and a guidance and mercy for the believers. (Qur'an 10:57)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُ مَوْعِظَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَشِفَاءٍ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

سورہ: یونس آیت: ۵۷

لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت (قرآن) آچکی اور جو امراض (شرک وغیرہ) دل میں ہیں ان کی دوا اور ایمانداروں کیلئے ہدایت و رحمت ہے۔

35.2 And We made it a Qur'an (in a language) other than Arabic, they would surely have said: "Why have not its verses been made clear? What a non – Arabic tongue and he (the messenger) an Arab?" Say: "for those who believe in it is a guidance and a cure; but those who do not believe – in their

ears there is a heaviness, and to them it is a blindness. They are (like those) who are called to from a place far-off.”

(Qur'an 41:44)

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ
 آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي
 آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ أُولَٰئِكَ
 يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ

سورہ: فصلت آیت: ۴۴

اور اگر ہم اس قرآن کو عربی زبان کے سوا دوسری زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اسکی آیتیں (ہماری زبان میں) تفصیل کے ساتھ کیوں بیان نہیں کی گئیں کیا (خوب قرآن تو) عجمی اور (مخاطب) عربی۔ (اسے رسول) تم کہدو کہ ایمانداروں کیلئے تو یہ (قرآن) ہدایت اور (ہر مرض کی) شفا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں گرانی (بہرا پن) ہے اور وہ (قرآن) ان کے حق میں ناپیدائی (کا سبب) ہے تو (گرانی کی وجہ سے گویا) وہ لوگ بڑی دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں (اور نہیں سنتے)

36. Followers of Holy Qur'an achieve the success and reach the final destination.

36.1 (And) those who follow the Messenger, the Prophet, the 'Ummi', whom they find mentioned in writing in the Torah and the Evangel; he commands them (to do) that which is good, and he prevents them from evil, and he makes lawful for them all good things, and he prohibits for them only the foul (unclean things), and he relieves them of their burdens, and the yokes that lie upon them; so those who believe in him, and honor him, and help him, and follow the light which has been sent down with him, are those who achieve success. (Qur'an 7:157)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

سورہ: الاعراف آیت: ۱۵۷

جو لوگ ہمارے نبی امی پیغمبر کے قدم بہ قدم چلتے ہیں (جس کی بشارت) کو اپنے ہاں
توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں اور (وہ نبی) جو اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور بُرے
کام سے روکتا ہے اور (جو) پاک و پاکیزہ چیزیں تو ان پر حلال اور ناپاک گندی چیزیں

ان پر حرام کر دیتا ہے اور وہ (سخت احکام کا) بوجھ جو ان کی گردن پر تھا اور پھندے جو ان پر (پڑے ہوئے) تھے ان سے ہٹا دیتا ہے۔ پس (یاد رکھو) کہ جو لوگ اس (نبی محمدؐ) پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم (عزت) کی اور ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے تو یہی لوگ اپنی دلی مراد میں پائیں گے۔

36.2 Verily He who has ordained the Qur'an to you certainly brings you back (to your) home; Say: "My Lord knows best who has brought the guidance and who is in manifest error."
(Qur'an 28:85)

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ
مَعَادٍ ۚ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ
هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

سورہ: القصص آیت: ۸۵

(اے رسولؐ) اللہ جس نے تم پر قرآن نازل کیا ضرور تمہیں ٹھکانے تک پہنچا دے گا۔
(اے رسولؐ) تم کہہ دو کہ کون راہ پر آیا اور کون صریحی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اس سے میرا پروردگار خوب واقف ہے۔

36.3 Those who have been given knowledge see (realize) what has been sent down to you from your Lord is the truth, and it guides to the path of the Almighty, the owner of praise. (Qur'an 34:6)

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ

سورہ: الصبا آیت: ۶

اور (اے رسول) جن لوگوں کو (ہماری بارگاہ سے) علم عطا کیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے اور سزاوار حمد (وثناء) غالب (اللہ) کی راہ دکھاتا ہے۔

37. Holy Qur'an is sent down (from heavens) gradually, in portions.

37.1 And it is Qur'an which We have apportioned it so that you may recite it to the people (by degrees) with deliberation, and we have sent it down, gradually, in portions. (Qur'an 17:106)

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْتٍ
وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

سورہ: بنی اسرائیل آیت: ۱۰۶

اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لئے نازل کیا کہ تم لوگوں کے سامنے (حسب ضرورت) مہلت دیکر اسکو پڑھ دیا کرو (اور اس وجہ سے) ہم نے اسکو رفتہ رفتہ نازل کیا۔

37.2 Those who disbelieve say: "Why is the whole Qur'an not sent down all at once to him?" Thus (it was revealed) that We may strengthen your heart therewith; and We have recited it (to you) in well-arranged gradual stages.

(Qur'an 25:32)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً
وَاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ
تَرْتِيلًا

سورہ: الفرقان آیت: ۳۲

اور کفار کہنے لگے کہ ان پر قرآن کل کا کل (ایک ہی دفعہ) کیوں نازل نہیں کیا گیا (ہم نے) اس طرح اس لئے نازل کیا تاکہ تمہارے دل کو تسکین (اس سے) دیتے رہیں۔ اور ہم نے اس کو رُک رُک کر نازل کیا۔

37.3 Verily We who have sent down to you (O' Mohammad!) the Qur'an, in a proper descension.

(Qur'an 76:23)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا

سورہ: الدھر آیت: ۲۳

اے (رسول) ہم نے تم پر قرآن کو رُک رُک کر نازل کیا۔

38. Holy Qur'an was sent down in the night of Qadr (in The Holy month of Ramadhan).

38.1 Verily We sent it down on a Blessed Night --
verily We are ever warning -- (Qur'an 44:3)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

سورہ: الدخان آیت: ۳

ہم نے اس کو مبارک رات (شب قدر) میں نازل کیا۔ بیشک ہم (عذاب سے)
ڈرانے والے تھے۔

38.2 Verily, We sent it (The Qur'an) down in the Night
of 'Qadr' (grandeur). (Qur'an 97:1)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

سورہ: القدر آیت: ۱

ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل (کرنا شروع) کیا۔

39. Holy Qur'an is written (preserved) in the mother Book (Hidden Book).

39.1 Verily We have made it an Arabic Qur'an that you
may understand. Verily it is in the Mother Book with Us, the Most
Exalted, (it is) full of Wisdom. (Qur'an 43:3-4)

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي

أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ

سورہ: الزخرف آیت: ۳-۴

اور بے شک یہ (قرآن) اصلی کتاب (لوح محفوظ) میں (بھی جو) ہمارے پاس
(ہے لکھی ہوئی) ہے اور یقیناً بڑے رتبہ کی (اور) پُر از حکمت ہے۔

39.2 Verily, it is the honorable Qur'an. In a Book hidden, which only the (thoroughly) purified can touch.
(Qur'an 56:77-79)

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ

سورہ: الواقعة آیت: ۷۷-۷۹

بیشک یہ بڑے رتبہ کا قرآن ہے جو کتاب (لوح) محفوظ میں (لکھا ہوا) ہے اس کو بس
وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔

39.3 Nay, it is the glorious Qur'an, (inscribed) in the Lawh e mahfuz. (the preserved tablet). (Qur'an 85:21-22)

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

سورہ: البروج آیت: ۲۱-۲۲

بلکہ یہ تو قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے

40. Holy Qur'an discourses Messengers to confirm hearts of the believers.

40.1 And all that We relate to you the accounts of the Messengers is to confirm your heart with it. And the truth has

come to you in this, and an admonition and a reminder to the believers. (Qur'an 11:120)

وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْنِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ
بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ
وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

سورہ: ہود آیت: ۱۲۰

اور (اے رسولؐ) پیغمبران ماسلف کے حالات میں سے ہم ان تمام قصوں کو تم سے بیان کئے دیتے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کر دیں گے۔ اور ان ہی قصوں میں تمہارے پاس حق (قرآن) اور مومنین کیلئے نصیحت اور یاد دہانی بھی آگئی۔

40.2 We narrate to you (O' Mohammad!) the best of narratives, in that We have revealed to you this Qur'an; though, before this, you were of those who were unaware (of it).

(Qur'an 12:3)

نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْنِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ
الْغَافِلِينَ

سورہ: یوسف آیت: ۳

(اے رسولؐ) ہم تم پر یہ قرآن نازل کر کے تم سے ایک نہایت عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں
اگرچہ تم اس سے پہلے اس سے بالکل بے پروا تھے

41. Holy Qur'an is a reminder for those that fear God.

41.1 Save it is a Reminder to him who fears (God).

(Qur'an 20:3)

سورہ: طہ آیت: ۳

إِلَّا تَذَكِرَةً لِّمَنْ يَخْشَى

(اس قرآن کو) اس کیلئے نصیحت قرار دیا جو (اللہ) سے خوف رکھتا ہے

42. Those with knowledge realize Holy Qur'an is Truth.

42.1 Those who have been given knowledge see (realize) what has been sent down to you from your Lord is the truth, and it guides to the path of the All-Mighty, the Most Praised (one). (Qur'an 34:6)

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ

رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ

الْحَمِيدِ

سورہ: الصبا آیت: ۶

اور (اے رسولؐ) جن لوگوں کو (ہماری بارگاہ سے) علم عطا کیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے اور سزاوار حمد

(وثناء) غالب (اللہ) کی راہ دکھاتا ہے

43. Holy Qur'an warns contentious people and gives glad tidings to those who safeguard themselves against evil.

43.1 Praise be to God, Who has sent down the Book

(Qur'an) upon His Servant, and has not caused therein any crookedness. He has made it straight, in order that he may warn of a severe punishment from Him, and give glad tidings to the believers who do good, that theirs shall be a goodly recompense, wherein they will abide forever.

(Qur'an 18:1-3)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَمَمْ
يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ
لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّا كَثِيرٍ فِيهِ أَبَدًا

سورہ: الکہف آیت: ۱-۳

ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو (سزاوار) ہے جس نے اپنے بندے (محمدؐ) پر کتاب (قرآن) نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی (خرابی) نہ رکھی (بلکہ) ایسی ٹھیک کتاب کہ اس کے ذریعہ سے (لوگوں کو) ڈرائے اور جن مومنین نے اچھے اچھے کام کئے ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری دے کہ ان کیلئے بہت اچھا اجر (ثواب) موجود ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

43.2 So We have made this (Qur'an) easy in your tongue, that you may thereby give glad tidings to those who safeguard themselves against evil, and warn thereby the people who are contentious. **(Qur'an 19:97)**

فَإِنَّمَا يَسْتَرْزَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ
بِهِ قَوْمًا لُدًّا

سورہ: مریم آیت: ۹۷

بیشک ہم نے اس (قرآن) کو تمہاری زبان کے ذریعہ سے آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے پر ہیزگاروں کو (جنت) کی خوش خبری دو۔

44. Qur'an admonishes worldly desires (affairs).

44.1 And leave those who have taken their religion for a play and vain sport, and (whom) the (temporal) Life of this world has beguiled. Admonish them with this (Qur'an) lest a soul be destroyed by what it has earned. For it there shall be no protector or intercessor besides God, and if it seeks to give every compensation, it shall not be accepted from it; these are they who are destroyed by what they had earned. For them shall be a drink of boiling water and a painful chastisement for what they used to disbelieve. (Qur'an 6:70)

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَهَوًّا وَغَرَّتْهُمْ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا
كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ

الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ
حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

سورہ: الانعام آیت: ۷۰

اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے ایسے لوگوں کو چھوڑو اور (موقع موقع سے) قرآن کے ذریعہ ان کو نصیحت کرتے رہو (ایسا نہ ہو) کہ کوئی شخص اپنے کرتوت کی بدولت مبتلائے بلا ہو جائے (کیونکہ اس وقت تو) اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ سفارشی۔ اور اگر وہ (اپنے گناہوں کے بدلے) سارے جہان کا بدلہ بھی دے تو بھی ان میں سے ایک نہ لیا جائے گا۔ جو لوگ اپنی کرنی کی بدولت مبتلائے بلا ہوئے ہیں ان کو پینے کیلئے کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا اور ان پر دردناک عذاب ہوگا کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔

45. Qur'an warns the people of the world.

45.1 Blessed is He who sent down the criterion (Qur'an) upon His Servant (Mohammad) that he may be a Warner to the worlds. (Qur'an 25:1)

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ

لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

سورہ: الفرقان آیت: 1

(اللہ) بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے (محمدؐ) پر قرآن نازل کیا تاکہ سارے جہان کیلئے (اس کے عذاب سے) ڈرانے والا ہو۔

45.2 Verily We have sent it down, the Arabic Qur'an so that you may understand. (Qur'an 12:2)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

سورہ: یوسف آیت: ۲

ہم نے اس کتاب (قرآن) کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔

46. Qur'an warns those who were not given the Book or those who were not warned earlier.

46.1 So that you may warn a people whose fathers were not warned, and who are therefore heedless.

(Qur'an 36:6)

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ

سورہ: یس آیت: ۶

تاکہ تم ان لوگوں کو (اللہ کے عذاب) سے ڈراؤ جن کے باپ دادا تم سے پہلے (کسی پیغمبر سے) ڈرائے نہیں گئے۔

47. Qur'an is sent to judge between people as per God's guidance.

47.1 Verily, We have sent down to you the Book (Qur'an) with the Truth, that you may judge between people by the which God shows you; and do not be a pleader for the treacherous. (Qur'an 4:105)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ
خَصِيمًا

سورہ: النساء آیت: ۱۰۵

(اے رسولؐ) ہم نے تم پر برحق کتاب اس لئے نازل کی ہے کہ جس طرح اللہ نے تمہاری ہدایت کی ہے اسی طرح لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ ہو۔

48. Qur'an reminds the followers of Prophet Mohammad (PBUH).

48.1 So hold fast to what has been revealed to you. Verily, you are on the right path. Verily it is reminder to you and your people, and you shall soon be questioned about it.

(Qur'an 43:43-44)

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ
وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

سورہ: الزخرف آیت: ۴۳-۴۴

تمہارے پاس جو وحی بھیجی گئی ہے تم اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ اس میں شک ہی نہیں کہ تم سیدھی راہ پر ہو اور یہ (قرآن) تمہارے لئے اور تمہاری قوم کیلئے نصیحت ہے اور عنقریب ہی تم لوگوں سے (اس کی) باز پرس کی جائے گی۔

49. Qur'an increases the humility of the believers.

49.1 Say (O' Mohammad!): "Believe in it or do not believe; Verily when it is recited to those who have already been given the knowledge before it, they fall down on their faces in prostration. And they say: "Glory be to our Lord! Verily the promise of our Lord was ever to have been fulfilled." They fall down on their faces weeping and it (listening to the Qur'an) increases their humility. (Qur'an 17:107-109)

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ
إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ
رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ
وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

سورہ: بنی اسرائیل آیت: ۱۰۷-۱۰۹

تم کہہ دو کہ خواہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں کو اس کے قبل ہی (آسمانی کتابوں کا) علم عطا کیا گیا ہے ان کے سامنے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ٹھڈیوں سے (منہ کے بل) سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار (ہر عیب سے) پاک و پاکیزہ ہے۔ بیشک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا اور یہ لوگ (سجدے کیلئے منہ کے بل گر پڑتے ہیں) اور روتے ہیں اور یہ قرآن ان کی خاکساری کو بڑھاتا جاتا ہے۔

50. Qur'an strengthens the faith of the believers.

50.1 Say (O' Mohammad to the disbelievers): "The Holy Spirit (Angel Gabriel) has brought it down (to you) from your Lord with truth, so that it may strengthen (the faith of) those who believe, and as guidance and glad tidings to those who submit themselves (to God). (Qur'an 16:102)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

سورہ: النحل آیت: ۱۰۲

(اے رسول!) تم (صاف) کہہ دو کہ اس (قرآن) کو روح القدس (جبریل) نے تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل کیا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کیلئے (سرتاپا) ہدایت اور خوشخبری ہے۔

51. Qur'an explains to the people, Truth about which they differ.

51.1 And We did not sent down to you the Book (O' Mohammad!) but that you may explain to them the Truth about which they differ, and (as) a guidance and a mercy for the people who believe. (Qur'an 16:64)

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي
اختلفوا فيه ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

سورہ: النحل آیت: ۶۴

اور ہم نے تم پر کتاب (قرآن) تو اسی لئے نازل کی تاکہ جن باتوں میں یہ لوگ جھگڑا کئے ہیں ان کو تم صاف بیان کرو اور (اس کے علاوہ یہ کتاب) ایمان داروں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے۔

52. Qur'an warns the unjust and gives glad tidings to those who do good.

52.1 Before it (Qur'an) there was a Book of Moses, a guide and a mercy, and this Book (Qur'an) confirms (it) in the Arabic language, that it may warn those who are unjust and offers glad tidings to those who do good. (Qur'an 46:12)

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۗ وَهٰذَا
كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا وَبُشْرٰى لِّلْمُحْسِنِيْنَ

سورہ: الاحقاف آیت: ۱۲

اور اس کے قبل موسیٰ کی کتاب پیشوا اور (سراسر) رحمت تھی اور یہ (قرآن) وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں اس کی تصدیق کرتی ہے تاکہ (اس کے ذریعے سے) ظالموں کو ڈرائے اور نیک کام کرنے والوں کو خوش خبری دے۔

53. Qur'an warns of the day of Resurrection.

53.1 Thus We have revealed to you (O' Mohammad!) the Qur'an in Arabic that you may warn the Mother City (Mecca) and those around it, and (that) you may warn (them) of a Day of gathering (Resurrection), of which there is no

doubt, (when) a party shall be in the garden, and a party in the burning (Hell) fire. (Qur'an 42:7)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ
الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ
فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

سورہ: الشوریٰ آیت: ۷

اور ہم نے تمہارے پاس عربی قرآن یوں بھیجا تا کہ تم ملہ والوں کو اور جو لوگ اس کے اطراف رہتے ہیں ان کو ڈراؤ اور (ان کو) قیامت کے دن سے بھی ڈراؤ جس (کے آنے) میں کچھ شک بھی نہیں۔ (اس دن) ایک فریق (ماننے والا) جنت میں ہوگا اور (دوسرا) فریق دوزخ میں۔

54. Qur'an reminds those who have God's fear.

54.1 We know best what they say; and it is not for you to compel them; therefore remind him by the Qur'an who fears My threat. (Qur'an 50:45)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِجَبَّارٍ ۚ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ

سورہ: ق آیت: ۴۵

(اے رسولؐ) یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ اور تم ان پر جبر تو کرتے نہیں ہو تو جو ہمارے (عذاب کے) وعدے سے ڈرے اس کو تم قرآن کے ذریعہ نصیحت کرتے رہو۔

55. Holy Qur'an clarifies to you, what you do not know.

55.1 But for the grace of God upon you, and His mercy, a party of them would surely have made up their minds to lead you astray; but they shall only lead their own selves astray, and they shall not harm you at all. And God has sent down to you the Book and the Wisdom, and has taught you what you did not know; and great is God's grace on you. (Qur'an 4:113)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ
 مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۗ
 وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
 تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

سورہ: النساء آیت: ۱۱۳

(اے رسولؐ) اگر تم پر اللہ کا فضل (و کرم) اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان (بد معاشوں) میں سے ایک گروہ تم کو گمراہ کرنے کا ضرور قصد کرتا حالانکہ وہ لوگ بس اپنے آپ کو گمراہ

کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے اور اللہ نے ہی تو (مہربانی کی کہ) تم پر اپنی کتاب اور حکمت نازل کی اور جو باتیں تم نہ جانتے تھے تمہیں سکھا دیں اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

56. Holy Qur'an brings forth humanity from darkness unto light.

56.1 Alif, Lam, Ra, A Book (This Qur'an is) We have revealed to you (O' Mohammad!) so that you may bring forth humanity from the darkness unto light, by their Lord's permission, to the way of the Mighty, the Praiseworthy.

(Qur'an 14:1)

الرَّ ۙ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

سورہ: ابراہیم آیت: ۱

آلہ۔ (اے رسول! یہ قرآن وہ) کتاب ہے جس کو ہم نے تمہارے پاس اسلئے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو انکے پروردگار کے حکم سے (کفر کی) تاریکی سے (ایمان کی) روشنی میں نکال لاؤ غرض اسکی راہ پر لاؤ جو سب پر غالب اور سزاوار حمد ہے۔

57. Holy Qur'an explains some of the threats, so that people may safeguard themselves against evil.

57.1 Thus have We sent down (to you O' Mohammad!) an Arabic Qur'an, and explained therein some of the threats, that

they may safeguard themselves against evil, or that it may serve unto them a Reminder to (warn) them. (Qur'an 20:113)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنْ
الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

سورہ: طہ آیت: ۱۱۳

ہم نے اس کو اسی طرح عربی زبان کا قرآن نازل فرمایا اور اس میں عذاب کے طرح طرح کے وعدے بیان کئے تاکہ یہ لوگ پرہیزگار بنیں یا ان کے مزاج میں عبرت پیدا کر دے۔

58. Holy Qur'an teaches the believers about the hereafter.

58.1 This Book (Qur'an), We have sent down, Blessed, confirming that which has been before it, that you may warn (the people of) the Mother City (Mecca) and those around it; and those who believe in the Hereafter believe in it, and they are (constantly) guarding their prayers. (Qur'an 6:93)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ
صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

سورہ: الانعام آیت: ۹۳

اور (یہ قرآن بھی) وہ کتاب ہے اسے ہم نے بابرکت نازل کیا ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اسکے سامنے (پہلے سے) موجود ہے اور اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ تم (اسکے ذریعہ سے) اہل مکہ اور اس کے اطراف کے رہنے والوں کو (اللہ کے عذاب) سے ڈراؤ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہی اپنی نماز میں بھی پابندی کرتے ہیں۔

59. Holy Qur'an disbelievers are the losers and will be punished.

59.1 Those to whom We have given the Book, read it as it should be read; they believe in it. But those, who disbelieve in it, are the losers. (Qur'an 2:121)

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ
أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْخَاسِرُونَ

سورہ: البقرہ آیت: ۱۲۱

جن لوگوں کو ہم نے کتاب (قرآن) دی ہے وہ لوگ اسے اس طرح پڑھتے رہتے ہیں جو اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان لائے ہیں۔ اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہی لوگ گھائے میں ہیں۔